

کان میں ایرڈراپس ڈالنے پر روزہ ٹوٹے گا یا نہیں
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ


الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
 کہ کان میں کوئی دوائی یا ایر ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں
 اس حوالے سے بہت کنفیوژن ہے اس پر وضاحت کے ساتھ جواب مطلوب ہے۔

سائل: بلال - لیسٹر (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَجْوَابُ بَعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ أَلْهَمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

کان کے تین حصے ہوتے ہیں بیرونی (Outer) وسطی (Middle) اندرونی (Inner) اور بیرونی (Outer) اور وسطی (Middle) کے درمیان ایک پردہ (Ear Drum) ہوتا ہے۔ کان کے بیرونی حصہ سے کوئی مائع چیز تیل، دوا وغیرہ پردے (Ear Drum) کی وجہ سے وسطی حصہ تک نہیں پہنچتی کیونکہ بیرونی حصہ اور وسطی حصہ کے درمیان کوئی منفذ (Route) نہیں ہوتا جیسا کہ اسے اس تصویر میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔



لہذا جدید تحقیق کے مطابق کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
 بشرطیکہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اور اگر کان میں ڈالی گئی دوا وغیرہ نفوذ بھی
 کرے گی تو وہ منافذ کے ذریعے نہیں بلکہ مسام کے ذریعے نفوذ کرتی ہے۔ اور
 فقہ حنفی کا مسلمہ اصول ہے کہ منافذ (Routes) کے ذریعے کسی چیز کے حلق یا
 معدے تک پہنچنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ کہ مسام کے ذریعے۔
 اس پر فقہ حنفی کی معتبر کتب سے کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

[1]: سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا حالانکہ سانپ کے کاٹنے پر بھی زہر جسم میں داخل ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی فقہائے کرام نے اسے مفسد صوم نہیں کہا بلکہ اسے ان اعدار میں شمار فرمایا جن کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔

الدر المختار میں روزہ توڑنے کے اعدار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا :
"فَصَلِّ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا خَمْسَةً وَبَقِيَ الْإِكْرَاهُ وَخَوْفُ هَلَاكٍ أَوْ نَقْصَانُ عَقْلِ وَلَوْ بَعْطَشٍ أَوْ جُوعٍ شَدِيدٍ وَسَعَةِ حَيَّةٍ"

ترجمہ: اور مصنف نے روزہ توڑنے کے اعدار میں سے پانچ ذکر کیے ہیں اور باقی یہ ہیں اکراہ اور ہلاکت کا خوف یا عقل کے ضائع ہو جانے کا خوف اگرچہ پیاس یا شدید بھوک کی وجہ سے ہو اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے۔

(الدر المختار مع حاشیہ الطحاوی جلد 1 صفحہ 438)

علامہ سید احمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لسعۃ حیہ کی شرح میں فرماتے ہیں "ان الرجل إذا لدغته حية فافطر ليشرب الدواء" یعنی اگر کسی آدمی کو سانپ کاٹ لے تو دوا پینے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار جلد 1 صفحہ 438)

مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہوا کہ سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کے بعد دوا پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیونکہ سانپ کا زہر مساموں کے ذریعے جسم میں جاتا ہے نہ کہ منہ کے ذریعے لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

اور تیل لگانے اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو کیونکہ یہ کسی مَنفَذ [Route] کے ذریعے حلق تک نہیں بلکہ مساموں کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے جیسا کہ درمختار میں ہے :

"(أَوْ أَدَهْنَ أَوْ اِكْتَحَلَ أَوْ اِحْتَجَمَ) وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ أَيْ طَعْمَ الدُّهْنِ فِي حَلْقِهِ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثَرٌ دَاخِلٌ مِنَ الْمَسَامِ الَّذِي هُوَ خَلْلُ الْبَدَنِ وَالْمُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ الدَّاخِلُ مِنَ الْمَنَافِذِ"

اگر کسی نے تیل یا سرمہ یا پچھنا لگایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ تیل کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کیونکہ حلق میں اس کا اثر مسام کے ذریعے پہنچتا ہے جب کہ روزہ تو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منافذ کے ذریعے اندر جائے۔

[ردالمحتار باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ج 2 ص 396]

[3]: ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کی ٹھنڈک محسوس کرے حالانکہ غسل کرنے سے پانی جسم کی جلد میں موجود باریک سوراخوں یعنی مساموں کے ذریعے جسم کے اندر جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے کہ **"لِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ اغْتَسَلَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ"** اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی پانی میں غسل کرے اور وہ اس کی ٹھنڈک پیٹ میں محسوس کرے پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

[ردالمحتار باب مايفسد الصوم وما لا يفسده ج 2 ص 396]

ان فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ روزہ اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منفذ کے ذریعے حلق یا معدے تک پہنچے نہ کہ مسام کے ذریعے اور اگر کوئی چیز مساموں کے ذریعے نفوذ کر کے معدے تک پہنچے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے کہ اس صورت میں بھی دوا منفذ کے ذریعے حلق تک نہیں پہنچ رہی اور البتہ مساموں کے ذریعے نفوذ کر کے پہنچ سکتی ہے مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کما بینا۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 25-4-2018

USING EAR DROPS WHILST FASTING

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:


What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: will the fast break by inserting medicine or ear drops etc. into the ear, there is a lot of confusion in this regard. It is requested that an answer is provided with clarity.

Questioner: Bilal from Leicester

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

The ear has three segments; outer, middle and inner, between the outer and middle there is an eardrum. Through the outer segment any liquid; medicine or oil etc. doesn't reach the middle segment, due to the eardrum, because there is no route between the outer and middle segments. As can be seen in the picture below.



Subsequently, according to new research by inserting medicine or oil in the ear the fast does not break, with the condition that the eardrum is not perforated. Also, if the medicine etc. inserted into the ear does penetrate then it is not via routes rather it penetrates through pores. A principle of Hanafi fiqh is anything that reaches the throat or stomach via routes, breaks the fast, on the contrary for via pores. Regarding this, evidences will be presented from credible books of Hanafi Fiqh.

Snakebite doesn't break the fast, even though by a snake biting poison enters the body. However in spite of this, the honorable scholars of Fiqh haven't stated it as an invalidator of fast. Rather it is associated with those exceptions that make it permissible to break the fast.

In Dur ul Mukhtar the exceptions in which the fast can be broken are stated;

"فَصَلِّ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا خَمْسَةً وَبَقِيَ الْإِكْرَاهُ وَخَوْفُ هَلَاكِ أَوْ نُقْصَانِ عَقْلِ وَلَوْ بَعْطَشٍ أَوْ جُوعٍ شَدِيدٍ وَسَعَةِ حَيَّةٍ"

The author has mentioned five exceptions for breaking the fast and the remaining are; compulsion, fear of fatality or the fear of losing the intellect, even if it is due to thirst or intense hunger and also due to a snake biting.

(الدر المختار مع حاشيه الطحاوى جلد 1 صفحه 438)

'Allamah Sayyid Ahmad Tahtawi, (may Allah have mercy on him) states in the explanation of snake bite that,

"إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَدَعَتْهُ حَيَّةٌ فَأَفْطَرَ لِيَشْرَبَ الدَّوَاءَ"

If a snake bites someone, it is permissible to break the fast in order to drink medicine.

(حاشيه الطحاوى على الدرالمختار جلد 1 صفحه 438)

From the above-mentioned reference it is made clear that the fast is not broken due to the snake biting, rather the fast is broken by drinking medicine after it, because the snake poison enters the body via pores not via routes, thus the fast will not break. Furthermore, applying oil, even if its taste is felt in the throat because it doesn't enter the throat via a route, rather it enters the throat via pores. As is stated in Dur ul Muhtar;

"(أَوْ أَذْهَنَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ اِحْتَجَمَ) وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ أَيْ طَعْمَ الدَّهْنِ فِي حَلْقِهِ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثَرٌ دَاخِلٌ مِنَ الْمَسَامِ الَّذِي هُوَ حَلَلُ الْبَدَنِ وَالْمُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ الدَّاخِلُ مِنَ الْمَنَافِذِ"

If someone applied oil, surma or had cupping done, such a persons fast will not break, even if the taste of the oil can be felt in the throat, even then the fast will not break, because it's effect reaches the throat through pores. Whereas the fast breaks when something enters via the routes.

[ردالمحتار باب مايفسدالصوم ومالا يفسده ج 2 ص 396]

It's mentioned in our books of Fiqh that the fast does not break by doing ghusl, even if any coolness is felt from it. Although, by doing ghusl water enters the body via tiny holes present on the skin i.e pores and the fast does not break from this.

Just as it is mentioned in Fatawā Shāmī,

"لَا تَفْأَقِ عَلَيَّ أَنْ مَنْ اغْتَسَلَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ"

It is agreed upon that if someone does ghusl in water and feels coolness in the stomach from it, even then his fast will not break.

[ردالمحتار باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ج 2 ص 396]

It is known through these fiqh texts, that the fast breaks when something reaches the throat or stomach via routes, not via pores. Also if something enters via pores and reaches the stomach, then by this the fast doesn't break. Inserting medicine or oil into the ear doesn't break the fast because in this case medicine isn't reaching the throat via routes. Although it can penetrate via pores, the fast doesn't break due to this, as discussed.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Hamza Hussain